




(uten bilder)

- Zulu folktale
- Wiehan de Jager
- Maouia Haj Mabrouk
- arabisk / bokmål
- nivå 4



Honninguidens hevn

حكاية نبي طائر العسل

# Barnebøker for Norge

[barnebokser.no](http://barnebokser.no)

حكاية نبي طائر العسل / Honninguidens

hevn

Skrevet av: Zulu folktale

Illustrert av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Maouia Haj Mabrouk (ar), Espen

Stranger-Johannessen (nb)


Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barnebokser.no](http://barnebokser.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>





هذه قصة دليل المناحل، نجيد، وشاب يدعى جنجيل. في يوم من الأيام، كان جنجيل خارج البيت في رحلة صيد عندما سمع صوت نجيد، دليل المناحل. سال لعاب جنجيل، فقد ذكره صوت الطائر بطعم العسل، فتوقف وبدأ يستمع بانتباه ويبحث عن العصفور حتى لمحّه بين أغصان الشجرة، فوق رأسه. خشخش العصفور الصغير "شتيك، شتيك، شتيك." وهو يقفز من شجرة إلى أخرى متوقفاً بين الفينة والفينة حتى يتأكد من أن جنجيل كان يتبعه.


...


Dette er historien om Ngede, honningguiden, og en grådig ung mann ved navn Gingile. En dag mens Gingile var ute på jakt, kalte Ngede på ham. Gingile fikk vann i munnen ved tanken på honning. Han stoppet og lyttet oppmerksomt, og lette til han så fuglen i grenene over hodet sitt. "Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk", kvitret den lille fuglen idet den fløy til det neste treet, og det neste. "Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk", kallet han, og stoppet innimellom for å forsikre seg om at Gingile fulgte etter.

Efter en halvtime nådde de et stort vilt fikentre. Ngede  
 hoppet rundt som en gal blant grenene. Han slo seg ned  
 på en gren og strakk hodet mot Gingile som om han sa:  
 "Her er det! Kom nå! Hvorfor bruker du så lang tid?"  
 Gingile kunne ikke se noen bier fra under treet, men han  
 stolte på Ngede.

...

بعد نصف ساعة، وصل النحل إلى شجرة تسمى "جنگله".  
 كان يرقب نغده وهو يقول: "هنا هو! لماذا تأخذ وقتاً طويلاً؟"  
 كان نغده يرقب من أعلى الأغصان ويقول: "هنا هو! لماذا تأخذ وقتاً طويلاً؟"  
 كان نغده يرقب من أعلى الأغصان ويقول: "هنا هو! لماذا تأخذ وقتاً طويلاً؟"






وضع جنجيل رمحه تحت الشجرة وجمع بعض الأغصان اليابسة وأشعل النار.  
وما إن توهج اللهب، حتى أخذ جنجيل عصا طويلة من خشب يابس ووضعها  
في النار لتحترق فتخرج دخانا كثيفا لدى احتراقها. ثم بدأ جنجيل يتسلق  
الشجرة حاملا العصا ذات الدخان الكثيف بين أسنانه ماسكا إياها من طرفها غير  
المحترق.

...

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samlet noen tørre kvister og tente et lite bål. Da ilden brant godt, stakk han en lang, tørr kjepp inn i hjertet av bålet. Denne veden var kjent for å lage mye røyk mens den brant. Han begynte å klatre mens han holdt den kjølige enden av kjeppen mellom tennene.

جاءت الفتيات اللواتي يعجنون العجين  
وكانوا يحملون كؤوسا من  
العسل في ايديهم. والفتيات  
التي يحملن العسل في ايديهن  
كانت تنطق بكلمات  
عذبة وجميلة. والفتيات  
التي يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن بكلمات  
عذبة وجميلة.


...




Snart kunne han høre summingen til de travle bierne. De kom inn og ut av et hulrom i trestammen – bolet deres. Da Gingile nådde bolet, dyttet han den rykende enden inn i hulrommet. Biene for ut, sinte og klare til angrep. De fløy bort siden de ikke likte røyken – men ikke før de hadde gitt Gingile noen smertefulle stikk!

وتبينوا انهم  
كانوا يحملون  
كؤوسا من  
العسل في ايديهم.  
والفتيات  
التي يحملن  
العسل في ايديهن  
كانت تنطق  
بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن  
بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن  
بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن  
بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن  
بكلمات  
عذبة وجميلة.  
والفتيات التي  
يحملن العسل في ايديهن  
كانت ينطقن  
بكلمات  
عذبة وجميلة.

...




Og på den måten, når barna til Gingile hører fortellingen om Ngede, respekterer de den lille fuglen. Hver gang de sanker honning sørger de for å gi den største delen av voksaka til honningguiden!



عندما ابتعد النحل، مد جنجيل يديه إلى الخلية في جوف الشجرة وبدأ يستخرج حفنات من أقراص الشمع المخضبة بالعسل والدهون والبيرقات البيضاء. وضع جنجيل أقراص الشهد بكل عناية في حقيبته ونزل من أعلى الشجرة.

...

Da biene var ute, stakk Gingile hånden sin inn i bolet. Han tok ut håndfuller med tunge vokskaker som dryppet av deilig honning og var fulle av feite, hvite larver. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skulderen og begynte å klatre ned fra treet.




وقبل أن تنقض عليه النمرة، أسرع جنجيل بالنزول من أعلى الشجرة، لكنه أخفق في مسك غصن من أغصان الشجرة وسقط مدوياً على الأرض فالتوى كاحله عند السقوط. واصل جنجيل طريقه يعرج، بالسرعة التي يخولها له كاحله الملتوي. ولحسن حظه أن النمرة كانت لازالت تحت تأثير النعاس فلم تلحق به. انتقم نجيد، دليل المناحل، لنفسه ولقن جنجيل درسا لن ينساه.

...

Før Leopard kunne svinge labben etter Gingile, skyndte han seg ned fra treet. I hastverket bommet han på en gren og landet med et høyt brak på bakken og forstuet ankelen. Han hinket videre så fort han kunne. Heldigvis for ham var Leopard fortsatt for søvnig til å jage ham. Ngede, honningguiden, hadde fått sin hevn. Og Gingile hadde fått seg en lærepenge.






لكن جنجيل أطفا النار والتقط رمحه وعاد أدراجه إلى منزله متناسياً العصفور، دليل المناحل. صاح العصفور غاضباً: “فيكتور، فيكتور...”. توقف جنجيل عن السير وهدق في العصفور الصغير وانفجر ضاحكاً: “هل تريد بعضاً من العسل يا صديقي؟ لكن أنا من قام بالعمل كله وتحملت كل تلك اللدغات لوحدي... فلماذا إذن أقتسم هذا العسل الرائع معك؟”. ثم ذهب بعيداً. استشاط نجيل غضباً بعد أن تأكد من أن لا سبيل للتفاهم مع جنجيل وقرر بأن ينتقم لنفسه.

...

Men Gingile slukket bålet, plukket opp spydet, begynte å gå hjem og overså fuglen. Ngede ropte sint: “SEI-er, SEI-er!” Gingile stoppet og stirret på den lille fuglen og lo høyt. “Du vil ha litt honning, du, lille venn? Ha! Men jeg gjorde alt arbeidet og fikk alle stikkene. Hvorfor skulle jeg dele noe av denne deilige honningen med deg?” Ngede var rasende! Dette var da ingen måte å behandle ham på! Men han skulle få sin hevn.



وفي يوم من الأيام، وبعد بضعة أسابيع من ذلك اللقاء، سمع جنجيل صوت نجيل يبشر من جديد بوجود العسل. تذكر جنجيل طعم العسل اللذيذ وبدأ يتبع العصفور من جديد وبكل شغف. وبعد أن قاد العصفور جنجيل على طول حافة الغابة توقف ليستريح تحت شجرة كبيرة مظلمة ذات أشواك. فكر جنجيل: “أه... لا بد أن تكون خلية النحل في تلك الشجرة”. أسرع جنجيل بإشعال نار صغيرة وبدأ يتسلق الشجرة وعود الدخان بين أسنانه. في الأثناء كان نجيل قابعا يراقب عن كثب ما كان يحدث.

...

En dag flere uker senere hørte Gingile igjen kallet fra Ngede. Han husket den deilige honningen og fulgte ivrig etter fuglen nok en gang. Etter at den hadde ledet Gingile langs skogkanten, stoppet den for å hvile i et stort akasietre. “Å”, tenkte Gingile. “Bolet må være i dette treet.” Han tente raskt det lille bålet sitt og begynte å klatre med den rykende grenen mellom tennene. Ngede satt og ventet.